

111841- طلاق کی نیت سے شادی کرنا حرام ہے

سوال

طلاق کی نیت سے شادی کرنے کا حکم کیا ہے، کچھ عرصہ کے لیے ایک شخص مسافر ہو اور شادی کر لے تو اس کی نیت میں ہو کہ جب واپس اپنے ملک جائے گا تو طلاق دے دے گا کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

پسندیدہ جواب

کچھ علماء کرام طلاق کی نیت سے شادی کرنا باطل قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ وقتی شادی ہے اس لیے متع کے مشابہ ہوئی۔

مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کی بھی یہی رائے ہے ہم نے ان کا فتویٰ سوال نمبر (91962) کے جواب میں نقل کیا ہے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

اور کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ شادی صحیح ہے لیکن یہ حرام اس لیے ہے کہ اس میں دھوکہ و فراڈ پایا جاتا ہے کیونکہ اگر عورت اور اس کے ولی کو اس کا علم ہو جائے کہ وہ شخص طلاق کی نیت سے شادی کر رہا ہے کہ کچھ ایام یا مہینے یا سال کے بعد اسے طلاق دے دے گا تو وہ اس شادی کی موافقت ہی نہیں کریں گے۔

اس رائے کے حامل علماء میں شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ شامل ہیں، ان سے دریافت کیا گیا:

ایک شخص کسی دوسرے ملک جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کی ڈیوٹی وہاں لگی ہے اور وہ اپنی عفت و عصمت محفوظ رکھنے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے شادی کرے اور بعد میں طلاق دے دے لیکن بیوی کو نہ بتائے کہ وہ اسے طلاق دے دے گا تو اس شادی کا حکم کیا ہے؟

شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا:

"طلاق کی نیت سے اس نکاح کی دو حالتیں ہیں:

یا تو عقد نکاح میں شرط رکھی گئی ہو کہ یہ نکاح ایک ماہ یا سال یا تعلم مکمل ہونے تک ہوگی، تو یہ نکاح متعہ کہلاتا ہے اور یہ حرام ہے۔

یا پھر وہ اس کی نیت رکھتا ہے لیکن شرط نہیں لگاتا، تو اس میں مسلک حنبلی میں مشورہ یہی ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے اور یہ عقد نکاح فاسد ہوگا، کیونکہ یہ کہتے ہیں: جس چیز کی نیت کی گئی ہے وہ مشروط کی طرح ہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی"

اور اس لیے کہ اگر کسی مرد نے کسی ایسی عورت سے شادی کی جس کو تین طلاق ہو چکی ہوں اور وہ اسے حلال کرنے کے لیے شادی کرے پھر اسے طلاق دے تو یہ نکاح فاسد ہوگا، اور اگرچہ اس میں شرط نہ بھی ہو، کیونکہ نیت کردہ چیز مشروط کی طرح ہی ہے۔

چنانچہ اگر نیت حلال کرنے کی ہو تو یہ نکاح فاسد ہو جائیگا، تو اسی طرح متع کی نیت بھی نکاح کو فاسد کر دیتی ہے خابہ کا قول یہی ہے۔

اور اس مسئلہ میں اہل علم کا دوسرا قول یہ ہے کہ :

اگر کسی شخص کی نیت میں ہو کہ جب وہ یہ ملک چھوڑ کر جائیگا تو بیوی کو طلاق دے دے گا اس نیت سے شادی کرنا صحیح ہے، مثلاً وہ لوگ جو تعلیم وغیرہ کے لیے دوسرے ملک جاتے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے : اس لیے کہ اس نے شرط نہیں لگائی، اور اس نکاح اور نکاح متعہ میں فرق یہ ہے کہ نکاح متعہ کی مدت جب ختم ہو جائے تو اس میں علیحدگی ہو جاتی ہے چاہے خاوند چاہے یا انکار کرے، لیکن اس نکاح میں ممکن ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی میں رغبت رکھتا ہو تو وہ اس کے پاس باقی رہے اور اسے وہ طلاق نہ دے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول یہی ہے۔

اور میرے نزدیک یہ صحیح ہے متعہ نہیں کیونکہ اس پر متعہ کی تعریف لاگو نہیں ہوتی، لیکن یہ اس اعتبار سے حرام ہی کہ اس میں بیوی اور اس کے خاندان والوں کے لیے دھوکہ و فراڈ پایا جاتا ہے۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ و فراڈ حرام کیا ہے، کیونکہ اگر بیوی کو یہ علم ہو جائے کہ یہ شخص تو اس سے صرف اتنی مدت کے لیے شادی کر رہا ہے تو وہ اس سے کبھی بھی شادی نہ کرے، اور اسی طرح عورت کے خاندان والوں کو علم ہو جائے تو وہ بھی اس کی شادی نہ کریں۔

اور اسی طرح وہ شخص خود بھی اس پر راضی نہیں ہو گا کہ اس کی بیٹی کی ایسے شخص سے شادی ہو جس کی نیت میں ضرورت ختم ہونے کے بعد طلاق دینا ہو، تو پھر وہ اپنے لیے کس طرح اس معاملہ پر راضی ہو رہا ہے کہ اگر اس کے لیے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے تو وہ اپنے لیے اسے پسند نہ کرے یہ ایمان کے خلاف ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

"تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے"

اور اس لیے کہ میں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے اس قول کو ایسے معاملہ کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنالیا ہے جو کسی بھی عالم دین نے نہیں کہا، وہ یہ کہ وہ دوسرے ملکوں میں صرف شادی کے لیے جاتے ہیں، وہ اس ملک میں شادی کے لیے جاتے ہیں اور پھر بتنا اللہ چاہے وہاں اس بیوی کے ساتھ رہتے ہیں جس کے متعلق ان کی نیت تھی کہ یہ شادی وقتی ہے، اور پھر واپس آ جاتے ہیں، اس مسئلہ میں یہ عظیم ممانعت ہے اور اس کا دروازہ بند کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں دھوکہ و فراڈ پایا جاتا ہے اور اس لیے بھی کہ اس طرح کا دروازہ کھول دے گا، کیونکہ لوگ جاہل ہیں اور اکثر لوگ کو خواہش اللہ کی حدود کی پامالی سے نہیں روکے گی "انتہی

دیکھیں : فتاویٰ المرأة المسلمة (2/757-758)۔

اور فقہ اکیڈمی کا فیصلہ ہے :

"طلاق کی نیت سے شادی کرنا یہ ہے کہ : ایسی شادی جس میں نکاح کے ارکان اور شروط پائی جائیں اور خاوند کے دل میں متعین مدت کے بعد طلاق کی نیت ہو مثلاً دس دن یا کوئی مہینہ مدت ہو؛ مثلاً تعلیم مکمل ہونے یا ضرورت پوری ہونے کی غرض سے جس کی بنا پر وہاں آیا ہے اس کے بعد طلاق دے گا۔

نکاح کی یہ قسم باوجود اس کے کہ کچھ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے لیکن فقہ اکیڈمی اس کی ممانعت کرتی ہے؛ کیونکہ یہ دھوکہ و فراڈ پر مبنی ہے، کیونکہ جب عورت کو یا اس کے ولی کو علم ہو جائے کہ اس کو طلاق دی جائیگی تو وہ کبھی بھی اس عقد نکاح کو قبول نہ کریں۔

اور اس لیے بھی کہ یہ بہت ساری عظیم خرابیوں اور خطرناک قسم نقصانات کا باعث بنے گا جس سے مسلمانوں کی شہرت خراب ہوگی۔

اللہ عزوجل ہی توفیق دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے "انتہی

<https://www.spa.gov.sa/353254>

بہر حال طلاق کی نیت سے شادی کرنا حرام ہے، اور اس میں یہ تردد ہے کہ آیا یہ نکاح متعہ کی طرح اصل میں باطل ہے یا کہ دھوکہ و فراڈ کی بنا پر نکاح حرام ہوگا۔

واللہ اعلم۔